

13 فروری 2018

سال 2017 کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ میں بے مثال بڑھوتری دیکھنے میں آئی

برامپٹن، آن – برامپٹن ٹرانزٹ کو 2017 میں سواری کی 18 فیصد کی بے مثال بڑھوتری کے ساتھ کینیڈا کے تیز ترین بڑھنے والے نقل و حمل کی خدمات کے فراہم کنندگان میں سے ایک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

سواری میں تقریباً نصف اضافہ شہر کے زوم کوریڈورز پر ہوا؛ کوئین اسٹریٹ، مین اسٹریٹ، اسٹیلز ایونیو اور بوویڈ ٹرائیو، پر مقامی اور زوم دونوں روٹس پر یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

صارفین اور عملے کی جوابی آراء کے ذریعے برامپٹن ٹرانزٹ مسلسل اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ 2017 میں اپنی سواریوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 36,000 سروس کے گھنٹوں کا اضافہ کیا گیا؛ جس سے نئی رہائشی اور معاشی ترقیوں کو معاونت مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ زوم سروسز برامپٹن سے باہر جاتی ہیں اور/یا GO ٹرانزٹ اور دیگر GTHA ٹرانزٹ ایجنسیوں، جیسا کہ TTC، یارک ریجن/VIVA اور MiWay سے مربوط ہوتی ہے۔ یہ روابط مسافروں کو قریبی میونسپلٹیوں میں پرسکون طریقے سے سفر کرنے کے لیے کئی انتخابات کی پیشکش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی روابط میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔

برامپٹن کی نوجوان، متنوع آبادی اور آبادی میں مجموعی اضافہ کی وجہ سے سفری سہولیات کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ برامپٹن میں تقریباً 40 لوگ روزانہ منتقل ہوتے ہیں اور اسٹیٹسکس کینیڈا کی جانب سے جاری ہونے والے 2016 کی مردم شماری کے ڈیٹا کے مطابق 593,000 نفوس پر مشتمل آبادی میں سے نصف سے زیادہ افراد کی عمریں 24 سال سے کم ہیں اور 52 فیصد لوگوں کی جائے پیدائش کینیڈا سے باہر کی ہے۔

اقتباسات:

"میں سمجھتی ہوں کہ کینیڈا کے تیز ترین بڑھتے ہوئے ایک شہر کے طور پر برامپٹن کے رہائشی اعلیٰ سفری سہولیات کے حقدار ہیں جو آپس میں بہتر طور پر مربوط اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوں۔ ہم نے عوامی سفری سہولیات پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اینڈروٹ روڈ پر زوم سروس کا اضافہ جو ستمبر کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ ہم اپنے شہر کی عوامی سفری سہولیات کی بڑھتی ہوئی ضروریات میں مزید سرمایہ کاری اور محنت کو جاری رکھیں گے۔"

- میئر لنڈا جیفری

"اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور ہماری توجہ سفر کی بہترین سہولیات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ اپنی سروس میں بہتری لانے کے لیے اس سال ہم 65,000 سروس گھنٹوں کا اضافہ کریں گے اور اپنی بڑھوتری میں تیزی لانے کے لیے ہم پوری جانفشانی کے ساتھ کام کریں گے۔ ہم برامپٹن کے رہائشیوں کی روزمرہ زندگی کو فخریہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔"

- ایلینکس مانیلوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654